

## 72204- محبت و عشق والے قصے اور رومانٹک فلمیں دیکھنے کا حکم

### سوال

میرا بہترین مشغلہ رومانٹک ڈائجسٹ اور ناول پڑھنا ہے، جن میں بعض اوقات ہیر اور ہیرون کے جنسی تعلقات اور مشاہدہ کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہوتا ہے، یہ علم میں رہے کہ میں نماز بھی ادا کرتی ہوں، اور پردہ بھی کرتی ہوں، اور بہت زیادہ اللہ کا تقویٰ اور ڈر بھی رکھتی ہوں، اور میرا کسی بھی نوجوان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ایک رومانسی لڑکی ہوں، اور موسیقی سننا، اور رومانٹک افلام دیکھنا پسند کرتی ہوں، لیکن مجھے جو چیز پریشان کرتی ہے وہ یہ ناول ہی ہیں۔

### پسندیدہ جواب

#### اول :

عشق و محبت کے قصے اور ناول پڑھنے کے بہت سے نقصانات ہیں خاص کر جب انہیں پڑھنے والا نوجوان لڑکا یا لڑکی ہو، اور وہ نقصانات یہ ہیں :

ایسے ناول اور قصوں سے شہوت انگیزی، ہیجان پیدا ہوتا ہے، اور گندے اور ردی قسم کے خیالات کو مہمیز ملتی ہے، اور دل اس ناول اور قصہ میں بیان کردہ ہیر ویا اس کے مقابلہ میں ہیرون کے ساتھ دلی تعلق پیدا ہوتا ہے، اور وقت وہاں صرف کیا جاتا ہے جس میں نہ تو دنیاوی فائدہ ہے اور نہ ہی دینی فائدہ، بلکہ غالباً اس میں نقصان ہی ہوتا ہے۔

اور شریعت اسلامیہ نے حرام کام کی طرف لے جانے والے وسائل اور دروازوں کو بھی بند کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ :

آنکھیں نیچی رکھی جائیں، اور عورت کے ساتھ خلوت سے بھی منگ کیا ہے، اور اسی طرح عورت کا بات چیت میں نرمی اختیار کرنا بھی منگ ہے، جس سے مرد میں ہیجان اور شہوت پیدا ہو، اور وہ اسے فحاشی پر آمادہ کرے۔

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس طرح کے قصے اور ناول پڑھنا شریعت کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ اس میں مردوں سے تعلق قائم کرنے اور ان کی تصاویر اور اشکال اور لڑکیوں سے ان کے انداز و خطب کی نقالی پیدا ہوتی ہے، اس پر مستزاد یہ کہ عشق و محبت کی فاحشہ قسم کی اقسام اور حرام ملاقات پیش کی جاتی ہیں، اور جو چیز بھی اس طرح کی ہو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

#### دوم :

موسیقی سننا حرام ہے، کیونکہ اس کی حرمت کے کئی ایک دلائل احادیث میں ملتے ہیں، ان دلائل کو ہم نے تفصیلاً سوال نمبر (5000) اور (20406) کے جوابات میں بیان کیا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔

#### سوم :

رومانٹک فلمیں دیکھنے کے متعلق بھی وہی کلام کی جاتی ہے جو رومانٹک ناول پڑھنے میں، بلکہ فلمیں تو اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں، اور اس میں خرابی زیادہ ہے، کیونکہ اس میں تو ان معانی کو جسمانی شکل اور حرکات و مختلف صورتوں میں سکریں پر پیش کیا جاتا ہے، اور فلم بین اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اس میں ستر پوشی نہیں ہوتی بلکہ

عورتوں کا ستر دیکھا جاتا ہے، اور فحش کا مطالعہ ہوتا ہے اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ اس میں اس قسم کی موسیقی ہوتی ہے جو شہوت میں ہیجان پیدا کرتی ہے، اور فحاشی کی دعوت دیتی ہے، جو کسی عقل مند پر مخفی نہیں، تو یہ بہت ہی تعجب والی بات ہے کہ آپ ان افلام کے متعلق پریشان نہ ہوں۔

حاصل یہ ہوا کہ: یہ سب کچھ ممنوع ہے، اور یہ حرام اور گناہ کا ذریعہ اور دروازہ ہے، اور اس کام کو انجام دینے والا بہت خطرناک موڑ پر پہنچ چکا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا کا حصہ لکھ رکھا ہے جسے وہ لاجملہ پا کر رہے گا، تو آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا بات چیت کرنا ہے، اور نفس اس کی خواہش کرتا اور چاہتا ہے، اور فرج اس سب کی تصدیق کرتی ہے، اور جھٹلاتی ہے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (6243) صحیح مسلم حدیث نمبر (2657)۔

اور مسلم کی روایت میں ہے:

"ابن آدم پر اس کا زنا سے حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ اسے لاجملہ پا کر رہے گا، تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور کانوں کا زنا سننا ہے، اور زبان کا زنا کلام ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا چلنا ہے، اور دل اس کی خواہش کرتا اور چاہتا ہے، اور اس سب کی تصدیق یا تکذیب شرمگاہ کرتی ہے"

چنانچہ آپ اس حدیث پر غور کریں، اور جن فلموں کا آپ نے ذکر کیا ہے انہیں دیکھیں اور ان کے متعلق غور کریں، کیونکہ ان افلام کا مشاہدہ آنکھوں اور کانوں کے زنا پر مشتمل ہے، اور دل خواہش کرتا اور چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی و عافیت سے نوازے۔

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حرام فعل اور چیز فوری طور پر ترک کرنی ضروری اور واجب ہے، اور گناہ کے بعد گناہ کرنا دل کو سیاہ کر دیتا ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

"یقیناً جب بندہ کوئی برائی اور گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب وہ اس گناہ کو ترک کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ وہی گناہ کرتا ہے تو اس میں زیادتی کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہ وہی ران (یعنی زنگ) ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ﴿بَلْکَلِمَۃٍ اِنْ کَرِهْتَہَا فَتَرْکُہَا وَتَرْکُہَا بِرِزْکٍ مَّحْضٍ﴾ کے الفاظ میں قرآن مجید میں بیان کیا ہے"

سنن ترمذی حدیث نمبر (3334) سنن ابن ماجہ حدیث نمبر (4244) علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے حسن قرار دیا ہے۔

اور آپ یہ بھی علم رکھیں کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ترک کر کے اس سے رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے، اس لیے آپ جتنی جلدی ہو سکے اس سے سچی اور پکی توبہ کریں، اور ان حرام کاموں کو فوراً چھوڑ دیں، اور آپ اپنے آپ کو ان کاموں میں مشغول رکھیں جو آپ کے دین اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہوں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور فائدہ مند تقاریر اور دروس کی سماعت کریں، جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں، اور آپ کو دار آخرت کی یاد دلاتی رہیں، اور آپ کو حرام سے دور رکھیں۔

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو سیدھی راہ کی راہنمائی اور توفیق سے نوازے۔

واللہ اعلم.